سلام در شان حضرت مرتضیٰ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سیدی مرتضیٰ سلام علیک
اے ولیِ خدا سلام علیک

آپ کے رحم پر جی رہے ہیں سبھی
آپ کی ہے دعا سلام علیک

ہو جو نظر کرم آپ کی قادری
اُس پہ قدرت فدا سلام علیک

پل رہے ہیں سبھی تیرے چھاؤں میں
یہ کرم ہے سخا سلام علیک

میرے مشکل کشا ہو تم حیدری
کر دو چشم عطا سلام علیک

ہے نسبت کو تیرے بڑا ہی شرف
آلِ خیر الوریٰ سلام علیک

میں گناہ گار ہوں سیاہ کار ہوں
لاج رکھنا شہا سلام علیک

فیض احمد رضا سے قاؔصد لکھا
یہ سلام و دعا سلام علیک

از: محمد حنیف قاؔصد رضوی، بیجاپور۔